



# ZIAUDDIN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

اردو نارمل کورس (لازمی)

جماعت "9" سائنس گروپ

حصہ "الف" لازمی (کثیر الانتخابی سوالات)

ہدایات : (۱) تمام سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۲) سوالات کاپی پر نقل نہ کیجئے پرچے کے مطابق صحیح نمبر ڈال کر جوابات لکھئے۔

(الف) دئیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لئے درست انتخاب کیجئے۔  
نشانات : ۳۷

۱: بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے :

(الف) جوانی کا (ب) کسی کا بھی نہیں (ج) بچپن کا (د) بلوغت کا

۲: جو اصطبل نظر آیا وہ دراصل تھا :

(الف) ڈاک بنگلا (ب) ڈاک خانہ (ج) عجائب گھر (د) اسپتال

۳: سبق "نظریہ پاکستان" کے مصنف کا نام ہے :

(الف) علامہ شبلی نعمانی (ب) ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان (ج) مولانا غلام رسول مہر  
(د) مولانا الطاف حسین حالی

۴: لفظ "پیراہن" سے کیا مراد ہے ؟

(الف) بستر (ب) حال دل (ج) لباس (د) لہو

۵: سلطانہ کی بہن کا نام تھا :

(الف) حسن آرا (ب) جمال آرا (ج) شاہ زمانی بیگم (د) خالدہ



# ZIAUDDIN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

۶: مرزا نوشہ عرفیت ہے :

(الف) میر تقی میر کی (ب) مرزا غالب کی (ج) میر درد کی (د) حیدر علی آتش کی

۷: رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں :

(الف) قانون شہادت (ب) قانون ادب (ج) قانون فلسفہ (د) قانون کیمیا

۸: لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں چھپائی تھیں :

(الف) روٹی (ب) ٹافیاں (ج) پوری (د) ٹکیاں

۹: سبق " ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسینسری " ماخوذ ہے :

(الف) شہادت نامہ سے (ب) مٹی کا دیا سے (ج) مضامین سر سیر سے

(د) سفر نامہ سے

۱۰: حضرت خدیجہ  آپ ﷺ کی کدمت زوجیت میں رہی تھیں -

(الف) ۲۰ برس (ب) ۳۰ برس (ج) ۲۵ برس (د) ۱۰

برس

۱۱: شامل نصاب "حمد" ماخوذ ہے :

(الف) کلیات سر سیر سے (ب) کلیات اسماعیل میرھٹی سے (ج) کلیات حالی

سے (د) کلیات شبلی سے

۱۲: نوجوان جاوید کا تعلق کس شہر سے تھا :

(الف) لاہور (ب) قصور (ج) کراچی (د) اسلام آباد

۱۳: اونہہ کر کے چپ ہونے سے نوکر ہوجاتے ہیں :

(الف) با ادب (ب) شیر (ج) دلیر (د) نا فرمان



# ZIAUDDIN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

۱۲: جدید بن عبدالله □ کو دیکھ کر آپ ﷺ مسکرا دیا کرتے تھے :

(الف) رشتہ داری کی وجہ سے (ب) دوستی کی وجہ سے (ج) مرّوت کی وجہ سے (د) محبت کی وجہ سے

۱۵: دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں :

(الف) رشتے (ب) نظارے (ج) مزے (د) احکامات

۱۶: پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی :

(الف) ۱۹۱۰ء (ب) ۱۹۱۱ء (ج) ۱۹۱۲ء (د) ۱۹۱۳ء

۱۷: شاہ زمانی بیگم اتری :

(الف) رکشے سے (ب) گھوڑے سے (ج) پالکی سے (د) بگھی سے

۱۸: زویا سو رہی تھی :

(الف) آنگن میں (ب) کمرے میں (ج) کوٹھری میں (د) برآمدے میں

۱۹: ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں :

(الف) دو (ب) چار (ج) چھ (د) آٹھ

۲۰: حمد باری تعالیٰ میں لفظ آئین سے کیا مراد ہے :

(الف) طریقہ (ب) قانون (ج) اصول (د) ضابطہ

۲۱: صبا سے ہوا مراد ہے :

(الف) سمندر کی (ب) باغ کی (ج) صحرا کی (د) ریگستان کی

۲۲: شامل نصاب نظم "دنیا ئے اسلام" ماخوذ ہے :

(الف) کلیات نظیر اکبر آبادی (ب) شاہ نامہ اسلام (ج) کلیات اقبال (د) عالی جی کی

نغمہ نگاری



# ZIAUDDIN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

۲۳: ایسی نظم جس کے ہر بند میں چھ مصرعے ہوں کہلاتی ہے :

(الف) مسرس (ب) ربائی (ج) مخمس (د) مسنوی

۲۴: نعت میں تو صفت کی جاتی ہے :

(الف) اللہ کی (ب) صحابہ کرام کی (ج) رسول اکرم ﷺ کی (د) انبیا انبیاء کی

۲۵: یونانی لفظ سے مشتق ہے :

(الف) ڈرامہ (ب) افسانہ (ج) ناول (د) لوک کہانی

۲۶: لفظ: بد صورت " میں "بد" قواعد کے لحاظ سے ہے :

(الف) سابقہ (ب) لاحقہ (ج) معرّ (د) مکیر

۲۷: شامل نصاب نظم " جیوے جیوی " پاکستان کے شاعر ہیں :

(الف) علامہ اقبال (ب) اسماعیل میرٹھی (ج) جمیل الدین عالی (د) میر انیس

۲۸: "فقیرانہ آئے فدا کو چلے ،

میاں خوش رہوں ہم دعا کو چلے "

اس شعر سے شروع ہونے والی غزل ہے :

(الف) میر کی (ب) غالب کی (ج) آتش کی (د) حسرت کی

۲۹: غزل کے پہلے شعر کو لہتے ہیں :

(الف) مطلع (ب) مقطع (ج) مصرع (د) مربع

۳۰: مرزا محمد اسد اللہ خان پیدا ہوئے :

(الف) دہلی (ب) ممبئی (ج) آگرہ (د) موہان

۳۱: میر تقی میر کی ولادت ہوئی :

(الف) ۱۷۲۵ (ب) ۱۷۲۶ (ج) ۱۷۲۷ (د) ۱۷۲۳



# ZIAUDDIN UNIVERSITY EXAMINATION BOARD

۳۲: "علقمہ" نام ہے :

(الف) نہر کا (ب) دریا کا (ج) چشمے کا (د) سمندر کا

۳۳: ڈپٹی نظیر احمد کے ناولوں کی تعداد ہے :

(الف) ۳ (ب) ۵ (ج) ۸ (د) ۴

۳۴: شامل نصاب نظم "نعت" کے شاعر ہیں :

(الف) علامہ اقبال (ب) امیر میتائی (ج) نظیر اکبر ابادی (د) حفیظ جالندھری

۳۵: مرزا غالب کی غزل میں اشعار کی تعداد ہے :

(الف) ۳ (ب) ۵ (ج) ۶ (د) ۴

۳۶: مرزا غالب کی وفات ہوئی :

(الف) ۱۸۷۳ (ب) ۱۸۷۱ (ج) ۱۸۶۹ (د) ۱۸۶۵

۳۷: میر نے وفات پائی :

(الف) لکھنؤ میں (ب) دہلی میں (ج) موہان میں (د) آگرہ میں



## حصہ "ب" مختصر سوالات کے جوابات

۲: مندرجہ ذیل میں سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

(الف): آپ ﷺ کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی ہالہ □ کیا فرماتے ہیں؟

(ب): بوڑھی کاکی بھوک سے بے تاب ہو کر جب کڑاہ کے پاس پہنچی تو روپا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟

(ج): سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟

(د): دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟

۳: مصنف اور شاعر کے حوالے کے ساتھ سبق " نظریہ پاکستان " یا نظم " برسات کا تماشہ " کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔

۴: مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجئے۔

(الف) "جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم ،

سو اس عہد کو اب وفا کر چلے "

(ب) " چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا بن ،

ہماری جیب کو اب حاجتِ رفو کیا ہے "

(ج) "خلق کے سر و ر ، شافعِ محشر ﷺ

مر ' سلِ دا وِر ، خاصِ پیمبر ﷺ"

(د) "کیا سناتا ہے مجھے تُرک و عرب کی داستان ،

مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سُوز و سَاز "



۵: (الف) مندرجہ ذیل شعری اصطلاحات اور اصناف سخن میں سے کسی دو کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجئے۔

(ا) ردیف (ب) ناول (ج) تخلص (د) نظم

(ب): مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات میں سے کسی چار کے جملے بنائیں۔

(ا) آڑھے ہاتھوں لینا (ب) الٹی گنگا ہ بہنا (ج) تاڑ جانا (د) رکھ رکھاؤ

(ه) تن بدن میں آگ لگنا (و) نو دو گیارہ ہونا

## حصہ "ج" بیانیہ سوالات کے جوابات

نشانات : ۱۵

۶: مندرجہ ذیل میں سے دو جملوں کی تشریح کیجئے۔

سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کیجئے۔

(الف): دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔

(ب): دنیا میں وہی لوگ کچھ کرسکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔

(ج): اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہ ہر حال واجب اور فرض عین ہے۔

(د): مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا اِلاَ اللهُ پر قائم ہے۔

۷: اپنے دوست کے نام ایک خط تحریر کیجئے جس میں اسے یہ بتائیے کہ عہد حاضر کے

پاکستان میں طلبہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ (۷)

یا

مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر ڈیڑھ صفحات کا مضمون تحریر کیجئے۔

(الف) کتب خانوں کی اہمیت و افادیت (ب) اسلام کی برکتیں (ج) نوجوان نسل میں موبائل

فون کے نقصانات



**ZIAUDDIN UNIVERSITY**  
EXAMINATION BOARD